

COVID-19 ویکسینیشن

<p>1 کیا میں مفت اضافی ویکسین بوسٹر کے لئے اہل ہوں؟ میں سرکاری پروگرام کے تحت مفت اضافی ویکسین بوسٹر کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟</p>	<p>حکومت کی طرف سے فراہم کردہ مفت اضافی بوسٹر میں BioNtech / Sinovac / آبائی تناؤ کی ویکسین یا ہائپو این ٹیک بائیوپلنٹ ویکسین شامل ہیں جب تک کہ ان کا استعمال عمر کے مطابق ہو۔</p> <p>مندرجہ ذیل ترجیحی گروپوں سے تعلق رکھنے والے شہری، اگر انہوں نے ابتدائی خوراک مکمل کر لی ہے، تو وہ حاصل کر سکتے ہیں 2023 میں اپنی آخری خوراک یا Covid-19 انفیکشن کی بحالی (جو بھی بعد میں ہو) کے کم از کم 180 دن کے بعد اضافی ویکسین بوسٹر مفت میں دیا جائے، اس سے قطع نظر کہ انہیں ماضی میں ویکسین کی کتنی خوراکیں ملی تھیں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد (بشمول رہائشی نگہداشت گھروں میں رہنے والے بزرگ)* • 18 سے 49 سال کی عمر کے افراد جو بنیادی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ • 6 ماہ یا اس سے زیادہ عمر کے افراد اور مدافعتی حالات کے حامل افراد*؛ • حاملہ خواتین اور • ہیلتھ کیئر ورکرز <p>*50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے، یا 6 ماہ یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے مدافعتی حالات کے ساتھ، اگر انہیں کوئی پچھلا انفیکشن نہیں ہے اور انہوں نے ابتدائی تین خوراکیں مکمل کی ہیں، تو انہیں تجویز کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تیسری خوراک کے 90 دن بعد اگلی خوراک وصول کریں مفت</p> <p>6 ماہ یا اس سے زیادہ عمر کے شہریوں کے لئے اور مذکورہ بالا ترجیحی گروپوں میں سے کسی سے بھی تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ اب بھی سرکاری COVID-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت COVID-19 ویکسین کی پہلی 3 خوراکیں مفت حاصل کر سکتے ہیں اگر انہیں پہلے کوئی انفیکشن نہیں ہے۔</p> <p>حکومتی COVID-19 ویکسینیشن پروگرام ہانگ کانگ کے رہائشیوں کے لیے مفت پہلی 3 خوراکیں اور مندرجہ بالا اہل افراد کو اضافی بوسٹر فراہم کرتا ہے۔ سروس پوائنٹس میں پورے علاقے میں نجی کلینک شامل ہیں (براہ کرم تفصیلات کے لیے نیچے دیے گئے لنکس کو دیکھیں)۔</p> <p>ویکسین حاصل کرنے کے لیے 6 ماہ یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے نجی کلینکس کی فہرست: https://www.chp.gov.hk/en/features/106980.html</p> <p>BioNtech - ویکسین حاصل کرنے کے لیے 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے نجی کلینکس کی فہرست: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_eng.pdf</p> <p>شہری پرائیویٹ کلینک COVID-19 ویکسینیشن سٹیشنز یا ہسپتال اتھارٹی (HA) کے جنرل آؤٹ پشٹ کلینکس کے ساتھ ساتھ زچہ و بچہ کی صحت سمیت مخصوص عوامی صحت کی دیکھ بھال کی تنظیموں پر بھی ویکسینیشن حاصل کرنے کا بندوبست کرنے کے لیے سرکاری ہانگ</p>
--	---

		<p>سسٹم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ محکمہ صحت کے تحت مراکز اور طلباء کے صحت کے مراکز۔ HA کے ماہر آؤٹ پیشنٹ کلینکس میں پیروی کرنے والے مریض اس وقت COVID-19 ویکسینیشن حاصل کر سکتے ہیں (بشمول Sinovac اور BioNTech ویکسینز) اس وقت جب وہ طبی ملاقاتوں میں شرکت کرتے ہیں۔</p> <p>2023 میں ایک اضافی بوسٹر آخری خوراک کے کم از کم 180 دن یا COVID-19 انفیکشن کی بحالی (جو بھی بعد میں ہو) 6 ماہ سے 17 سال کی عمر کے بچوں اور نوعمروں کے لئے سمجھا جا سکتا ہے یا 18 سے 49 سال کی عمر کے صحت مند بالغ افراد ذاتی انتخاب کی بنیاد پر ماہرین کی سفارش پر مبنی ہیں اگر انہوں نے ابتدائی خوراک مکمل کر لی ہے۔ انہیں اپنے خرچ پر نجی بازار میں ویکسین حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ شہری نجی مارکیٹ میں رجسٹرڈ COVID-19 ویکسین کی فراہمی پر فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں اور اپنے ذاتی خرچ پر سرکاری ویکسی نیشن پروگرام کے باہر ذاتی تحفظ کے لیے ویکسین حاصل کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔</p> <p>COVID-19 ویکسینیشن سے متعلق سفارشات کے لئے، براہ کرم ویب پیج ملاحظہ کریں "میرے لئے COVID-19 ویکسین کی کتنی خوراکیوں کی سفارش کی گئی ہے؟":</p> <p>https://www.chp.gov.hk/files/pdf/poster_recommen_dose.pdf</p> <p>اگر آپ کو ویکسینیشن کے لئے اپنی موزونیت کے بارے میں یقین نہیں ہے تو، آپ کو اپنے خاندانی ڈاکٹر سے تبادلہ خیال کرنا چاہئے اور ٹیکہ کاری کے لئے بہترین وقت کا فیصلہ کرنا چاہئے۔</p>
2	<p>میں اپنے خرچ پر ویکسین بوسٹر کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟ مجھے کتنا ادا کرنا چاہئے؟</p>	<p>پرائیویٹ مارکیٹ رجسٹرڈ COVID-19 ویکسین (سیلف پیڈ) کے لئے ٹیکہ کاری فراہم کرے گی، جو سرکاری ٹیکہ کاری پروگرام سے باہر ہے۔ ویکسین تیار کرنے والے / سپلائر آزادانہ طور پر رجسٹرڈ ویکسین درآمد کرنے اور غیر سرکاری پروگرام کے استعمال کے لئے نجی طبی تنظیم یا ڈاکٹر کو فروخت کرنے کا انتخاب کریں گے۔ فی الحال، Sinovac/ BioNtech کے علاوہ، 138A ٹوپی کے تحت رجسٹرڈ دیگر COVID-19 ویکسین موجود ہیں۔</p> <p>ان لوگوں کے لئے جو حکومت کی طرف سے مفت COVID-19 ویکسینیشن کا احاطہ نہیں کرتے ہیں (بشمول ہانگ کانگ کے رہائشی جو تریجی گروپوں یا غیر ہانگ کانگ کے رہائشیوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں) اگر وہ ویکسین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو، براہ کرم نجی مارکیٹ میں رجسٹرڈ ویکسین کی فراہمی کے لئے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کریں (بشمول ویکسی نیشن کی جگہ اور لاگت) اور ذاتی تحفظ کے لئے اپنے اخراجات پر ویکسین لگوانے پر غور کریں۔</p>
3	<p>COVID-19 انفیکشن سے صحت یاب ہونے کے بعد مجھے کتنی خوراکیں لینے کی ضرورت ہے؟</p>	<p>صحت یاب ہونے والے افراد کے لئے خوراک کا شیڈول ویکسینیشن اور انفیکشن کے درمیان وقفے کے ساتھ ساتھ وصول کنندہ کی عمر جیسے عوامل پر منحصر ہے۔ برائے مہربانی "COVID-19 انفیکشن سے پہلے متاثرہ افراد کے لئے COVID-19 ویکسینیشن پر فیکٹ شیٹ" ملاحظہ کریں:</p> <p>https://www.chp.gov.hk/files/pdf/factsheet_priorcovid19infection_eng.pdf</p> <p>Covid-19 ویکسینیشن سے متعلق سفارشات کے لئے، براہ کرم ویب پیج ملاحظہ کریں "میرے لئے COVID-19 ویکسین کی کتنی خوراکیوں کی سفارش کی گئی ہے؟":</p> <p>https://www.chp.gov.hk/files/pdf/poster_recommen_dose.pdf</p>

4	<p>میں ٹیکہ کاری کے بعد 14 دن سے بھی کم وقت میں انفیکشن کا شکار ہو گیا۔ کیا میں ویکسین کی ایک کم خوراک لے سکتا ہوں؟</p>	<p>عام طور پر، صحت یاب ہونے والے افراد کو عام آبادی کے مقابلے میں کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویکسین کی افادیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور ویکسینیشن کے بعد مدافعتی ردعمل کو بڑھانے کے لیے، ایک خوراک اور COVID-19 انفیکشن کے درمیان کم از کم 14 دن کا وقفہ ضروری ہے۔</p> <p>جن افراد کی خوراک اور انفیکشن کے درمیان وقفہ 14 دن سے کم ہے انہیں اس انفیکشن کے واقعے کے باوجود ویکسین کی ایک بھی کم خوراک نہیں لینا چاہئے۔ ویکسی نیشن کا ریکارڈ اب بھی انفیکشن سے پہلے اور بعد میں حاصل کردہ ویکسین کی خوراک کو ظاہر کرے گا۔</p>
5	<p>مجھے دو بار انفیکشن ہوا۔ کیا مجھے ویکسین کی دو کم خوراک لینا چاہئے؟</p>	<p>ابتدائی خوراکوں کے لئے، وہ افراد جو ایک سے زیادہ COVID-19 انفیکشن سے صحت یاب ہو چکے ہیں، انہیں غیر متاثرہ افراد کے مقابلے میں صرف ایک کم خوراک لینا چاہئے۔</p> <p>ایک اضافی بوسٹر کے لیے، خوراک کا وقفہ آخری خوراک یا COVID-19 انفیکشن سے صحت یاب ہونے سے کم از کم 180 دن کا ہونا چاہئے (جو بھی بعد میں ہو)۔</p> <p>صحت یاب ہونے والے افراد کے لئے ٹیکہ کاری کی تفصیلات کے لئے، براہ کرم "COVID-19 انفیکشن والے افراد کے لئے COVID-19 ویکسینیشن پر فیکٹ شیٹ" ملاحظہ کریں:</p> <p>https://www.chp.gov.hk/files/pdf/factsheet_priorcovid19infection_eng.pdf</p>

(B) مفید باٹ لائنز

<p>نچویز کردہ ویکسین کی خوراک اور وقفے:</p> <p>eHRSS (الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ شیئرنگ سسٹم) کے ساتھ رجسٹرڈ پرائیویٹ ڈاکٹروں کی فہرست جنہوں نے COVID-19 کیسز کے انتظام کے لیے COVID-19 اینٹی وائرل حاصل کیے ہیں:</p>	<p>https://www.chp.gov.hk/files/pdf/poster_recommen_dose.pdf</p> <p>https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf</p>
---	---

آخری اپ ڈیٹ: 4.8.2023